

تبدیلی کالج کے لیے شرائط

ضروری ہدایت اس فارم کو ڈاؤن لوڈ کرنے یا فوٹو کاپی استعمال کرنے کی صورت میں مبلغ-500 روپے اضافی جمع کرانے ہونگے۔

- (الف) والد یا سرپرست کی رہائش تبدیل ہو جانے سے یہ ضروری ہو گیا ہو کہ طالب علم بھی کالج تبدیل کرے۔
 (ب) والد یا سرپرست کو موجودہ کالج میں داخلہ لینے کے تین ماہ کے اندر اعتراض پیدا ہو گیا ہو۔
 (ج) طالب علم ایسا مضمون / مضامین لینے کا خواہشمند ہو جو موجودہ کالج میں پڑھایا نہ جاتا ہو (تبدیلی کے اجازت نامہ میں نئے مضامین لینے کا اندراج کر دیا جائے گا اور طالب علم کو ان مضامین کا امتحان دینا ہوگا۔)

تبدیلی کالج کے قواعد و ہدایات

- (1) اجازت نامہ برائے تبدیلی کالج کی فیس مبلغ-1000 روپے صرف حبیب بینک لمیٹڈ کی نامزد برانچ میں جمع کروائیں اور اصل بنک چالان کی فارم کی پشت پر چسپال کر کے دستی یا بذریعہ ڈاک بنام سیکرٹری بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سینکڈری ایجوکیشن۔ 86 مزنگ روڈ لاہور کو بھیجیں۔
- (2) تبدیلی کالج کی منظوری اُس طالب علم کو جاری کی جائے گی جو لاہور بورڈ کے کسی کالج میں داخل ہو کر رجسٹرڈ ہو چکا ہو۔
- (3) جس طالب علم نے میٹرک کا امتحان لاہور بورڈ کے بجائے کسی اور بورڈ / یونیورسٹی سے پاس کرنے کے بعد کالج میں داخلہ لیا ہے اور ابھی تک رجسٹرڈ نہیں لیکن کسی دوسرے کالج میں تبدیلی کروانی ہے وہ (i) رجسٹریشن فارم (ii) رجسٹریشن فیس مبلغ-1000 روپے (مع اصل حبیب بینک چالان (iii) میٹرک / سینکڈری سکول کا سرٹیفکیٹ یا تفصیلی نمبروں کا سرٹیفکیٹ (iv) سابقہ بورڈ / یونیورسٹی کا تبدیلی سرٹیفکیٹ پرنسپل کی تصدیق کے بعد اس فارم کے ساتھ رجسٹریشن کے لیے ارسال کرے۔
- (4) جس کالج میں طالب علم داخل ہے فارم پر اس کالج کے پرنسپل کی تصدیق کروانی ضروری ہے طالب علم کے خلاف کسی کاروائی کے متعلق ریمارکس پرنسپل فارم پر درج کرے۔
- (5) جس کالج میں طالب علم تبدیلی کروانے کا خواہشمند ہے اس کالج کے پرنسپل کی منظوری بھی حاصل کرے۔
- (6) بورڈ کی منظوری حاصل ہونے سے پیشتر پرنسپل کالج چھوڑنے کا سرٹیفکیٹ جاری نہ کرے بورڈ کی منظوری کے بغیر داخلہ جائز تصور نہیں ہوگا۔
- (7) تبدیلی کالج کا فارم اس وقت تک قبول نہیں کیا جائے گا جب تک پرنسپل طالب علم کے اگلے درجہ میں عارضی ترقی یا اسی جماعت میں روکنے کے سارے متعلقہ کوائف کا اندراج نہ کرے۔
- (8) اگر کسی طالب علم کا نام کالج سے خارج ہو چکا ہو۔ وہ کسی وقت بھی اسی تعلیمی سال کیلئے اسی کالج کی اسی جماعت میں دوبارہ داخل ہو سکتا ہے جس جماعت سے اُس کا نام خارج ہوا ہو۔ ایسا طالب علم نئے تعلیمی سال سے اسی جماعت میں اُس کالج یا کسی اور کالج میں داخل ہو سکتا ہے۔ اگر وہ پرنسپل سے کالج چھوڑنے کا سرٹیفکیٹ پیش کرے بشرطیکہ داخلہ کی تاریخ مقررہ تاریخ سے لیٹ نہ ہو۔ مروجہ قوانین کی خلاف ورزی نہیں ہونی چاہیے۔ یعنی (الف) امتحان دینے سے قبل دو سالہ تعلیمی سال۔
- (ب) کالج سے نکالنے Rustication کے متعلق پرنسپل کی کاروائی۔
- (9) جس کالج میں فیس وصول کی جاتی ہے۔ وہاں فیس کی کمی سے وصول کی جائے گی۔ انٹرمیڈیٹ جماعتوں کے طلباء چوبیس ماہ کی فیس ادا کریں گے۔ تبدیلی کروانے والے طالب علم سے ایک ہی ماہ کی فیس دوسرے کالج میں دوبارہ وصول نہیں کی جائے گی۔
- (10) ایک ہی شہر میں واقع کالجوں میں تبدیلی کی ہر ممکن حد تک حوصلہ شکنی کی جانی چاہیے۔